

برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن نے کووڈ-19 کے دوران مقامی ریستورینٹس کی مدد کے لیے پیٹیو برامپٹن پروگرام کا آغاز کر دیا

برامپٹن، آن (24 جون 2020) – آج سے حکومت اونٹاریو ریجن آف پیل کو معمولات زندگی کو دوبارہ کھولنے کے مرحلہ 2 میں داخل ہونے کی اجازت دے گی، جس کے بعد ریستورینٹس اور بارز اپنے گاہکوں کو بیرونی جگہوں پر بیٹھا کر کھانا پیش کر سکیں گے۔ اس تبدیلی کو ممکن بنانے کے لیے، سٹی آف برامپٹن نے پیٹیو برامپٹن پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ یہ پروگرام ریستورینٹس اور بارز کے لیے اپنی بیرونی جگہوں کو توسیع دینے اور باہر اپنی جسمانی فاصلہ بندی کو برقرار رکھنا آسان بنائے گا۔ پیٹیو برامپٹن پروگرام کے ذریعے، زیادہ رہائشی گرمیوں کے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے باہر جا سکیں گے اور مقامی کاروبار کی معاونت کر سکیں گے۔

مقامی کاروبار برامپٹن کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اور سٹی کورونا وائرس (کووڈ-19) کی عالمی وباء کے اثرات سے ان کی بحالی میں ان کی مدد کرنے کے لیے پر عزم ہے۔ پیٹیو برامپٹن پروگرام درخواستوں اور پرمٹس پر زیادہ تیزی سے عمل درآمد کو یقینی بنائے گا اور 1 جنوری 2021 تک سائیڈ واک، پارکنگ لاٹ اور کرب لین پیٹیوز پر فیسوں کی چھوٹ کو ممکن بنائے گا۔

بیرونی جگہوں کو توسیع دینے کے لیے دو انتخابات دستیاب ہوں گے:

- **نجی جگہ کے اندر پیٹیو کی عارضی توسیع** – یہ انتخاب نجی جگہ، بشمول پارکنگ لائٹس، کے اندر نئی عارضی پیٹیو اور ریستورینٹ اور بار کی موجودہ پیٹیو کی عارضی توسیع کو ممکن بنائے گا۔
- **میونسپلٹی کی جگہ یا عوامی راستے کے اندر پیٹیو کی عارضی توسیع** – یہ انتخاب میونسپلٹی کی املاک، بشمول عوام کے چلنے کے راستے (سائیڈ واکس) پر پیٹیو بنانے یا اس کو توسیع دینے کو ممکن بنائے گا۔

عارضی پیٹیو کی صرف پہلے سے قائم شدہ ریستورینٹس، بارز اور کھانے پینے کے دیگر اداروں کو اجازت ہے۔ کاروباروں کے چلنے کے لیے ایک قابل قبول لائسنس/رجسٹریشن کا موجود ہونا لازمی ہے۔ معذور افراد کے لیے پارکنگ کی جگہوں کو پارکنگ کے استعمال اور رسائی کے لیے دستیاب رہنا چاہیے اور پیٹیو کی عارضی توسیع کو کسی مخصوص فائر روٹ یا سائیڈ ٹرائی اینگلز میں واقع نہیں ہونا چاہیے۔ ریستورینٹ اور بار کے گاہکوں کے لیے معیاری پارکنگ کی جگہ کی ایک معقول تعداد بھی برقرار رکھی جانی چاہیے۔

پیٹیو کی عارضی توسیع کے لیے درخواست سٹی کی [ویب سائٹ](#) پر دستیاب ہے اور سٹی کلرک کے دفتر میں آن لائن جمع کروائی جا سکتی ہے۔ درخواست پر نظر ثانی کے عمل اور اوقات کو کورونا وائرس کی موجودہ عالمی وباء کے دوران عملے کی صحت و سلامتی کا تحفظ کرتے ہوئے ریستورینٹ کے مالکان کے لیے آسان بنایا جائے گا۔

پرمٹ حاصل کرنے کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے، [پیٹیو برامپٹن کا صفحہ](#) ملاحظہ فرمائیں۔

سٹی آف برامپٹن کمیونٹی کی کورونا وائرس سے مجموعی بحالی اور عملے اور رہائشیوں کی صحت و سلامتی کے لیے وقف ہے۔ پیٹیو برامپٹن یقینی بنائے گا کہ کاروبار جسمانی فاصلہ بندی کے اقدامات اور حکم اونٹاریو کی جانب سے جاری کردہ عوامی صحت کی دیگر ہدایات یا احکامات پر عمل کرتے ہوئے بحفاظت کام کر سکیں۔

معاشی بحالی کی حکمت عملی

مقامی کاروبار برامپٹن کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پچھلے مہینے، برامپٹن سٹی کونسل نے برامپٹن کی معاشی بحالی کی حکمت عملی کو منظور کیا، جس میں چھوٹے کاروباروں، ریستورینٹس اور سیاحت کی مدد کے لیے اقدامات شامل ہیں۔ اس حکمت عملی کے حصے کے طور پر، سٹی نے "سیورٹ لوکل" مہم کا آغاز کیا، جو رہائشیوں کی کووڈ-19 کے دوران اور اس کے بعد مقامی چیزیں دیکھنے، منتخب کرنے اور خریدنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔

کووڈ-19 کے خلاف ردعمل میں کمیونٹی کو معاونت فراہم کرنے کی سٹی کی کوششوں کے متعلق مزید معلومات کے لیے www.brampton.ca/COVID19 ملاحظہ کریں یا [@CityBrampton](https://www.facebook.com/CityBrampton) کو ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔

اقتباسات

"چونکہ ہم مرحلہ 2 میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمارے ریستورینٹ اپنی بیرونی جگہیں کھول رہے ہیں، ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ہم ان کی خدمات فراہم کرنے کی گنجائش کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے اپنی جگہوں کو فوراً بڑھانے میں معاونت فراہم کریں، جبکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ پیل پبلک ہیلتھ اور صوبے کی جانب سے جسمانی فاصلہ بندی کی ہدایات پر عمل کریں۔ انہیں اس موسم گرما میں اپنے مقامی ریستورینٹس کی مدد کرتے ہوئے برامپٹن میں ہمارے پاس موجود کھانے پینے کی کئی زبردست بیرونی جگہوں کا مکمل فائدہ اٹھائیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ہمارے پاس اپنے متنوع شہر میں ریستورینٹس کی وسیع اقسام موجود ہیں۔ جبکہ ہم بحالی کی جانب بڑھ رہے ہیں، پہلے کہیں سے بھی اب یہ بات زیادہ اہم ہے کہ ہم مقامی چیزوں کی حمایت کریں۔ پیٹیو برامپٹن پروگرام ہمارے مقامی ریستورینٹس کو زیادہ جگہ فراہم کرنے کے قابل بنائے گا، تاکہ ہم ان کی کھانے پینے کی بیرونی جگہوں پر بیٹھ کر موسم گرما سے لطف اندوز ہوں اور نئے کھانے آزمائیں اور اپنے مقامی کاروباروں کی حمایت کریں۔"

- پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5؛ لیڈ، اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس؛ سٹی آف برامپٹن

"میں اپنے مقامی ریستورینٹس کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ پیٹیو برامپٹن پروگرام کے ذریعے توسیع شدہ پیٹیو کے لائسنس کے لیے درخواست دینے پر غور کریں۔ ہم کاروباروں کو ہماری کمیونٹی کے لیے محفوظ اور توسیع شدہ خدمات فراہم کرنے کے فوری طور پر قابل بنانے کے لیے اس عمل کو جتنا ممکن ہو سکے سادہ بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔"

- مائیکل پلیسیچی، ریجنل کونسلر، وارڈز 2 اور 6؛ لیڈ، اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس؛ سٹی آف برامپٹن

"ہمارا ری اوپننگ اینڈ ریکوری ورکنگ گروپ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کرتا رہا ہے کہ ہم اپنی معیشت کو سہارا دینے اور عوام کی صحت کو اولین ترجیح رکھنے کے درمیان درست توازن رکھتے ہوئے معمولات زندگی دوبارہ کھولنے کے ہر مرحلے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے شہر کی پیٹیوز کا کھلنا ہماری بحالی کا ایک اہم عنصر ہے اور ہم اسے جتنا ممکن ہو سکے، آسان رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔"

- مارٹن میڈیروس ریجنل کونسلر وارڈز 3 اور 4؛ لیڈ، ری اوپننگ اینڈ ریکوری ورکنگ گروپ

"کونسل اور عملہ مقامی کاروباروں کو کووڈ-19 کی عالمی وباء کے جاری اثرات سے بحال ہونے کے دوران معاونت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے، جبکہ ہم عملے اور رہائشیوں کی صحت و سلامتی کا تحفظ کرنا بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پیٹیو برامپٹن پروگرام کے تحت پرمٹس اور درخواستوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے عملہ سخت محنت کرے گا، تاکہ بارز اور ریستورینٹس دوبارہ سے ہماری کمیونٹی کو بحفاظت خدمات فراہم کر سکیں۔"

- ٹیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"فوری منظوریاں حاصل کرنا اس سال کئی ریستورینٹس کے لیے ایک اہم معاملہ ہے۔ سٹی آف برامپٹن پورے شہر میں ریستورینٹس کے بیرونی حصوں کی توسیع کی منظوری کو تیز کرنے کے لیے داد کا مستحق ہے۔ یہ پالیسی مقامی ریستورینٹس کو وباء کی وجہ سے مختصر ہونے والے گرمیوں کے اس موسم کے دوران اپنے گاہکوں کو بحفاظت خدمات فراہم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ میئر، کونسل اور عملے کا شکریہ۔"

- ٹاڈ لیٹس، CEO، برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ

30--

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca